

16 جنوری 2020

## ردو بدل کا عمل جاری ہے! 16 - 23 جنوری تک ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں مسمااری کا کام جاری رہے گا۔

ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ آج سے لے کر 23 جنوری تک 21 نیلسن اسٹریٹ پر سٹی کی زیر ملکیت عمارتیں مسماار کی جائیں گی، جو مستقبل کے سنٹر فار انوویشن (CFI) کی مجوزہ جگہ ہے۔

اس وقت کے دوران درج ذیل علاقے متاثر ہوں گے:

- شمال کی جانب جانے والی سڑک کنارے کی لین اور جارج سٹریٹ پارکنگ لائٹ سے شروع ہوتے ہوئے جارج اسٹریٹ نارٹھ کے ساتھ والی مشرقی سائیڈ واک اور؛
- نیلسن سٹریٹ ویسٹ کے ساتھ جنوبی سائیڈ واک
- یہ لین اور سائیڈ واک مسمااری کا کام مکمل ہونے تک بند رہے گی

CFI ایک مثالی گیٹ وے عمارت بنے گی اور سٹی کے انوویشن ڈسٹرکٹ کا ایک کلیدی حصہ ہو گی، جو ایک نئی سنٹرل لائبریری، ایک ڈاؤن ٹاؤن ٹرانزٹ ٹرمینل اور دفاتر کے لیے جگہ کی پیشکش کرے گی۔

### ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن کی تجدید نو کی شہہ سرخیاں

- رور واک: یہ کاپاپلٹ پراجیکٹ سیلاب سے بچنے کے معقول انتظامات اور اربن ڈیزائن لینڈ اسکیپ کے ذریعے برامپٹن کے ڈاؤن ٹاؤن میں نئی روح پھونکے گا۔
- لائٹ ریل ٹرانزٹ اور آل ڈے ٹو وے گو: منصوبہ شدہ ہراونٹاریو LRT کی سٹیلز ایونیو پر موجود گیٹ وے ٹرمینل اسٹیشن سے برامپٹن گو اسٹیشن تک توسیع اور پورا دن چلنے والی دو طرفہ گو سروس معاشی بڑھوتری، نوکریوں کی تخلیق اور ترقی میں معاون ہو گی۔
- انوویشن ڈسٹرکٹ: برامپٹن جدت کے لیے ایک مضبوط نظام بنانے کے لیے تمام ضروری انتظامات کر رہا ہے، بشمول راجرز سائبر سیکیور کیٹالسٹ، برامپٹن انٹر پرائیوئر سنٹر (خیالات پیدا کرنا اور مشترکہ کام کی جگہ)، رینرسن-برامپٹن انوویشن زون (سٹارٹ اپ انکیوبیٹر) اور ایک سکیل اپ انکیوبیٹر۔
- بعد از ثانوی تعلیم: بعد از ثانوی تعلیم میں مسلسل شراکت داریاں اور سرمایہ کاریاں، تحقیق، جدت اور کاروباری سرگرمیاں مستقبل کی نوکریوں کو تخلیق کریں گی اور بھریں گی۔
- کوئین اسٹریٹ بس ریپڈ ٹرانزٹ: میٹروولنکس ریپڈ ٹرانزٹ کو کوئین اسٹریٹ ہائی وے 7 کوریڈور تک توسیع دینے کے لیے ڈھانچہ تیار کرنے کے لیے سٹی آف برامپٹن، برامپٹن ٹرانزٹ، پیل ریجن اور یارک ریجن کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ مخصوص لینز میں BRT مستقبل میں زیادہ عرصے تک نفاست رکچر، ٹیکنالوجی اور گنجائش کو بڑھانے کو ممکن بنائے گی، جو طلب، فعلی تقاضوں اور ٹیکنالوجی کی دستیابی کے مطابق ہو گا۔

-30-

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)